

## JUZ 6 PART 1

### SURAH AN-NISA (VERSES 148-176)

#### ROOT WORDS

Meaning	Rootwords	Words	Ayah
پسند کرتا	ح ب ب	يُحِبُّ	148
آواز بلند کرنا	ج ه ر	الْجَهْرُ	
تم درگزر کرو	ع ف و	تَعْفُوا	149
رسوا کرنے والا	ه و ن	مُهَيِّنًا	151
دکھا ہمیں	ر ا ی	أَرْنَا	153
بجلی کی کڑک نے	ص ع ق	الصَّعِقَةُ	
ان کے اوپر	ف و ق	فَوْقَهُمْ	154
ان سے پختہ عہد لینے کے لیے	و ث ق	بِمِيثَاقِهِمْ	
پکا	غ ل ظ	غَالِبًا	
ان کے توڑنے کے	ن ق ض	نَقَضِهِمْ	155
مہر لگادی	ط ب ع	طَبَعَ	
بہتان	ب ه ت	بُهْتَانًا	156

جو حلال کی گئی تھیں	ح ل ل	أَحَلَّتْ	160
اور بوجہ ان کے روکنے کے	ص د د	وَبَصَدَّهِمْ	
جو راسخ ہیں	ر س خ	الرَّاسِخُونَ	162
اور جو قائم کرنے والے ہیں	ق و م	وَالْمُقِيمِينَ	
اور اولادِ یعقوب کے	س ب ط	وَالْأَسْبَاطِ	163
ذکر کیا ہم نے ان کا	ق ص ص	قَصَصْنَاهُمْ	164
کلام کیا	ک ل م	كَلَّمْ	
کلام کرنا	ک ل م	تَكَلَّمَ	
ڈرانے والے	ن ذ ر	مُنذِرِينَ	165
کوئی حجت	ح ج ج	حُجَّةٌ	
اور انہوں نے روکا	ص د د	وَصَدُّوا	167
کہ وہ بخش دے	غ ف ر	لِيَغْفِرَ	168
تم غلو کرو	غ ل و	تَغْلُوا	171
باز آجاؤ	ن ہ ی	أَنْتَهُوا	
عار محسوس کرے گا	ن ک ف	يَسْتَنْكِفُ	172
پس وہ پورے پورے دے گا انہیں	و ف ی	فَيُؤْفِقِيهِمْ	173

ایک دلیل	ب ر ه	بُرْهَنٌ	174
اور انہوں نے مضبوط پکڑا	ع ص م	وَأَعْتَصَمُوا	175
وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے	ف ت ی	يَسْتَفْتُونَكَ	176
کلالہ (متوفی جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین)	ک ل ل	الْكُلَّةِ	
حصہ	ح ظ ظ	حِظٌّ	

## SURAH AL-MAIDA (VERSES 1-27)

### ROOT WORDS

Meaning	Rootwords	Word	Ayah
عہد و پیمانہ کو	ع ق د	بِالْعُقُودِ	1
چوپائے	ب ہ م	بِهَيْمَةٍ	
شکار	ص ی د	الصَّيِّدِ	
نشانیوں	ش ع ر	شَعَائِرَ	2
پٹے والے جانور	ق ل د	الْقَلَائِدِ	
ارادہ کرنے والوں کو	م م م	أَمِّينَ	
تو شکار کرو (اگر تم چاہو)	ص ی د	فَاصْطَادُوا	
آبادہ کرے تمہیں	ج ر م	يَجْرِمَنَّكَ	

دشمنی	ش ن ا	شَنَانُ	
انہوں نے روکا تمہیں	ص د د	صَدُّوْكُمْ	
اور گلا گھٹ کر مرنے والی	خ ن ق	وَالْمُنْخَنِقَةُ	3
اور چوٹ لگ کر مرنے والی	و ق ذ	وَالْمَوْقُوذَةُ	
اور بلندی سے گر کر مرنے والی	ر د ی	وَالْمُتَرَدِّيَةُ	
اور سینگ لگ کر مرنے والی	ن ط ح	وَالنَّطِيحَةُ	
بھوک	خ م ص	مَحْمَصَةٌ	
مانگ ہونے والا	ج ن ف	مُتَجَانِفٌ	
شکاری جانور	ج ر ح	الْجَوَارِحِ	4
شکار کی تعلیم دینے والے	ک ل ب	مُكَلِّبِينَ	
وہ روک رکھیں	م س ک	أَمْسِكْنَ	
قضائے حاجت	غ و ط	الْغَائِطِ	6
قائم رہنے والے	ق و م	قَوَّامِينَ	8
ہرگز آمادہ کرئے تمہیں	ج ر م	يَجْرِمَنَّكُمْ	
وہ بڑھائیں	ب س ط	يَبْسُطُوا	11
نگران	ن ق ب	نَقِيْبًا	12

اور مدد کی تم نے ان کی	ع ز ر	وَعَزَّرْتُمُوهُمْ	
ان کے توڑنے کے	ن ق ض	نَقَضْتُمُوهُمْ	13
بڑا حصہ	ح ظ ظ	حَظًّا	
تو ڈال دیا ہم نے	غ ر و	فَأَغْرَيْنَا	14
وہ کرتے / بناتے	ص ن ع	يَصْنَعُونَ	
اور اس کے پیارے ہیں	ح ب ب	وَأَحِبُّوهُ	18
وقفے پر	ف ت ر	عَلَى فِتْرَةٍ	19
کوئی ڈرانے والا	ن ذ ر	نَذِيرٍ	
بڑے زبردست لوگوں کی	ج ب ر	جَبَّارِينَ	22
جب تک وہ رہیں گے	د و م	مَا دَامُوا	24
بیٹھنے والے ہیں	ق ع د	قَاعِدُونَ	
وہ بھٹکتے پھریں گے	ت ی ہ	يَتِيهُونَ	26
تم افسوس کرو	ی ء س	تَأْسٍ	